

# زبان کا قفلِ مدینہ

ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع  
میں ہونے والی سنتوں بھرا بیان

## زبان کا قفلِ مدینہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط  
اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

### دُرود شریف کی فضیلت:

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، صاحبِ مُعَظَّرِ سَیْنِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”اے لوگو! بے شک بروزِ قیامت اسکی دہشتوں اور حساب کتاب  
سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہو گا جس نے مجھ پر دُنیا کے اندر بکثرت دُرود شریف  
پڑھے ہوں گے۔“ (الْفُرْدَوْسُ بِمَأْتُوْرِ الْخَطَابِ ج ۵ ص ۷۷ ۲۷۷ حدیث ۸۱۷۷)

کثرت سے دُرود اُن پہ پڑھو رب نے جو چاہا  
سینے میں اتر آئیں گے انوارِ مدینہ

### صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! حصولِ ثواب کی خاطر بیانِ سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں  
کر لیتے ہیں۔ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ”نَيْتَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ“ مُسْلِمَانِ كِي  
نَيْتِ اُس كے عمل سے بہتر ہے۔ (۱) الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِلطَّبْرَانِي ج ۶ ص ۱۸۵ حدیث ۵۹۳۲  
دو مَدَنِي پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔  
(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

### بیانِ سننے کی نیتیں:

❖ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیانِ سنوں گا ❖ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علمِ دین  
کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا ❖ ضرورتاً سمٹ سرگ کر دوسرے

کے لیے جگہ کشادہ کروں گا ❀ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور اُلجھنے سے بچوں گا ❀ صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب، اذْکُرُوا اللّٰه، تُوبُوا اِلَی اللّٰه وغیرہ سُن کر ثواب کمانے اور صدالگانے والوں کی دل جوئی کیلئے بلند آواز سے جواب دوں گا ❀ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔

**صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد**

**بیان کرنے کی نیتیں:**

میں بھی نیت کرتا ہوں ❀ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے بیان کروں گا ❀ دیکھ کر بیان کروں گا ❀ پارہ 14، سورۃ النَّحْلِ، آیت 125: اُدْعُ اِلَی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْبُوعْظَةِ الْحَسَنَةِ (ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے) اور بخاری شریف (حدیث 4361) میں وارد اس فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوا عَنِّیْ وَ لَوْ اَیَّتَہ۔ یعنی ”پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو“ میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا ❀ نیکی کا حکم دوں گا اور بُرائی سے منع کروں گا ❀ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجُّہ رکھوں گا یعنی اپنی علیّت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا ❀ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ، برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا \* فقہہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا ❀ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتیٰ الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔

## زبان کا قفلِ مدینہ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

بیان کے مدنی پھول:

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آج میں آپ کے سامنے زبان کی حفاظت سے متعلق

مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ  
عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ایک نصیحت بھری حکایت بیان کروں گا۔ اس کے بعد قرآن  
پاک کی آیات اور خاموشی کے فضائل پر احادیثِ مبارکہ اور ضمیمہ فحش گوئی کی مذمت  
گوش گزار کروں گا۔ اس کے بعد فضول جملوں کی چند مثالیں اور بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ  
النبیین کے اقوال بھی سناؤں گا۔ اس کے بعد فضول گوئی سے بچنے کے چند طریقے اور آخر  
میں بات چیت کرنے کے مدنی پھول بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

## زبان کا قفلِ مدینہ:

حضرت سیدنا عمر بن سلیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ  
حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنے حواریوں کے پاس اس حالت میں  
تشریف لے گئے کہ آپ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے جسمِ انور پر اون کا جبہ تھا اور  
ایک عام سی شلوار پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا،  
آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بھوک کی وجہ سے آپ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا  
رنگ متغیّر ہو گیا تھا اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ آپ عَلَى  
نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اپنے حواریوں کو سلام کیا، اور فرمایا: "اے بنی

اسرائیل! اگر میں چاہوں تو اللہ (عَزَّ وَجَلَّ) کے حکم سے دُنیا تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آجائے لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اے بنی اسرائیل! تم دُنیا کو ہمیشہ حقیر جانو، اسے کوئی وقعت نہ دو یہ خود تمہارے لئے نرم ہو جائے گی، تم دُنیا کی مذمت کرو تمہارے لئے آخرت مُزین ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم آخرت کو پس پشت ڈال دو اور دُنیا کی تعظیم و توقیر کرو، بے شک دُنیا کوئی قابل احترام شے نہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ دُنیا تو تمہیں ہر روز کسی نہ کسی نئی آفت یا نُقصان کی طرف بلاتی ہے لہذا اس کے دھوکے سے بچو۔ "پھر زبان کی حفاظت کے بارے میں نصیحت کے مدنی پُھول لٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم فضول گوئی سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکرِ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے۔ اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رَحْمَت سے محروم ہو جاتا ہے۔ (عیون

الحکایات ج ۱، ص ۱۸۵)

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! قفلِ مدینہ، دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی ایک اصطلاح ہے، کسی بھی عضو کو گناہ اور فضولیات سے بچانے کو "قفلِ مدینہ" لگانا کہتے ہیں۔**

دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں

ہر عضو کا عطار لگا قفلِ مدینہ

زبان کو گناہوں بھری گفتگو اور فضول باتوں سے بچانے کو زبان کا قفلِ مدینہ کہتے ہیں۔

**صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ**

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بیان کردہ حکایت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی حضرت**

سَیِّدُنَا عِیْسٰی رُوْحُ اللهِ عَلٰی بَیِّنَاتٍ وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نے اپنے حواریوں کو جو نصیحتیں فرمائیں

ان میں فضول گوئی سے بچنے اور اپنی زبان کو ذِکْرُ اللهِ سے تر رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا

اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ فضول گوئی دل کی سنجی کا بھی سبب ہے۔ یاد رکھئے! زبان

بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے دیگر اعضاءِ جسم کی طرح ایک

عظیم نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم جہاں نیکیاں کما کر جنت کی ابدی نعمتوں کے

حقدار ہو سکتے ہیں وہیں اس کے غلط استعمال کے سبب گناہوں کے مُر تکب ہو کر عذابِ

نار میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ افسوس! فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصوّر تقریباً مَقْشُوْد (ختم)

ہو چکا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں

اور دو جبرٹوں کے پہرے میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دُنیوی و اُخروی

مَصائب میں مُبتلا کر سکتا ہے۔ مگر نتايج سے بے پرواہ ہو کر بلا سوچے بولتے چلے جانا آج

ہماری عادت بن چکی ہے، یاد رکھئے! ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے جیسا

کہ قرآن مجید فرقانِ حمید میں ہے۔

**مَا يَنْفُذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَاقِبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾**

ترجمہ کنزالایمان: کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو (پ ۲۶ سورۃ ق آیت ۱۸) اور میدانِ محشر کے وحشت ناک ماحول میں اپنے مُتَعَلِّقِینَ و مُجْبِیْنِ کے سامنے ہر ایک نے اس نامہ اعمال کو پڑھ کر بھی سنا نا ہو گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَنُحِرْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿۱۸﴾ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۹﴾ ترجمہ کنزالایمان: ”اور اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے گھلا ہوا پائے گا، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے“ (پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 14، 13)

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! روزِ محشر کی رُسوائی سے خود کو بچانے کیلئے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، فضول گفتگو سے بچنے کیلئے ایسی صحبت بھی چھوڑنی ہے جہاں زبان کو قابو میں رکھنا دشوار ہو کیونکہ جب زبان چلتی ہے تو جھوٹ، غیبت، چُغلی، فُحش گوئی، تہمت اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کی مُرتکب ہو جاتی ہے۔ لہذا عاقبت اسی میں ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔**

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کوئی شے نہیں۔“

(الترغیب والترہیب، کتاب الادب، رقم: ۱۳، ج ۳، ص ۳۷)

## زبان کا قفلِ مدینہ

اکابرین رَحِمَهُمُ اللهُ التَّيْبِينِ فرماتے ہیں: ”زبان ایک درندے کی مانند ہے اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دُشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔“

(المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الثالث عشر، ج ۱، ص ۱۳۶)

یقیناً زبان کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کی طرف توجُّہ بھی نہیں ہوتی اور وہ بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔

چنانچہ

### ہمیشہ کی رضا و ناراضی

حضرت سیدنا بلال بن حارث رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں، سلطانِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ حقیقت نشان ہے: کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اُس کی انتہا نہیں جانتا اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اُس دن تک کیلئے لکھی جاتی ہے جب وہ اُس سے ملے گا۔ اور ایک آدمی بُری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا (یعنی انجام) نہیں جانتا اللہ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اُس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ (سُنَنِ تَرْمِذِي ج ۴ ص ۱۳۳ حدیث ۲۳۲۶)

### پہلے تو لو پھر بولو!

مُفَسِّرِ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِي أَحْمَدِ يَارْخَانَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ اِسْ حَدِيثِ



پاک کے تحت فرماتے ہیں: (بعض اوقات آدمی) کوئی بات ایسی بُری بول دیتا ہے جس سے رَبِّ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے لہذا انسان کو چاہئے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت سیدنا عَلْقَمہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کی (یہ) حدیث روک دیتی ہے۔ (مرقات) یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آجاتی ہے اور میں (اس خوف سے) خاموش ہو جاتا ہوں۔ (کہ کہیں ایسی بات مُنہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیشہ کیلئے مجھ سے ناراض ہو جائے) (مراۃ ج ۶ ص ۶۲۲)

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! زبان کی تیزی کے بھیانک نتائج سے دیگر اعضائے بدن بھی متاثر ہوتے ہیں اسی لئے سارے اعضاء صُبح ہوتے ہی زبان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ تُو سیدھی چلنا ورنہ تیرا وبال ہم پر آئے گا۔**  
**روزانہ صُبح اعضاء زَبان کی خُوشامد کرتے ہیں:**

حضرت سیدنا ابوسعید خُدْری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے: جب انسان صُبح کرتا ہے تو اُس کے تمام اعضاء زَبان کی خُوشامد کرتے ہیں، کہتے ہیں: ”ہمارے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈر! کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں اگر تُو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تُو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔“ (ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی حفظ اللسان، ۴/ ۱۸۳، حدیث: ۲۴۱۵)

## زبان کا قفلِ مدینہ

مفسرِ شہیر حکیمُ الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ اِس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: ”نَفْعُ نَفْسَانِ، رَاحَتٍ وَ اَرَامٍ، تَكَالِيفٍ وَ اَلَامٍ مِیْن (اے زَبان!) ہم تیرے ساتھ دَلَسْتَه ہوں اگر تُو خَرَاب ہوگی ہماری شامت آجاوے گی تُو دُرُسْت ہوگی ہماری عِزْت ہوگی۔ خیال رہے کہ زَبان دَل کی تَرْجُمَان ہے اس کی اِبْجَھائی بُرَائی دَل کی اِبْجَھائی بُرَائی کا پتا دیتی ہے۔“ (مرآة، ۶ / ۳۶۵)

### زبان کی بے احتیاطی کی آفتیں:

واقعی زَبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں، اسی زَبان سے اگر کسی کو بُرا بھلا کہا اور اُس کو غصہ آگیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی زَبان سے کسی مسلمان کو بلا اجازتِ شرعی ڈانٹ دیا اور اُس کی دَل آزاری کر دی تو یقیناً اس میں گنہگاری اور جہنم کی حقداری ہے۔

### دَل کی سَخْتی کا انجام:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہم پر رَحْم فرمائے ہماری زبانوں کو لگام نصیب کرے اور ہمارے دِلوں کی سَخْتی کو دُور فرمائے کہ سَخْتِ دِلِی فُحْشِ گُوئی کی علامت ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے نبی سَیِّدِنَا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: فُحْشِ گُوئی سَخْتِ دِلِی سے ہے اور سَخْتِ دِلِی آگ میں ہے۔“

(ترمذی، کتاب البر والصلہ، باب ماجاء فی الحیاء، ۳/۳۰۶، حدیث: ۲۰۱۶)

مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: جو شخص زبَان کا بے باک ہو کہ ہر بُری بھلی بات بے دھڑک مُنہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ دَرخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ (اور) رسول (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ (مراۃ، ۶/۶۳۱)

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** دیکھا آپ نے زبان کو قابو میں نہ رکھنے کے سبب انسان دیگر آفتوں کے ساتھ ساتھ فحش گوئی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں بد کلامی اور فحش گوئی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہماری کوئی مجلس، کوئی بیٹھک اس گناہ سے محفوظ نہیں جہاں چند دوست جمع ہوئے، مذاقِ مسخری کا سلسلہ شروع ہو تو کئی کئی گھنٹے انجامِ آخرت سے بے خوف ہو کر بے ہودہ اور فحش گفتگو میں لگن رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہماری یہ فحش گفتگو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا سبب ہے۔ جیسا کہ

**فحش کلامی رب تعالیٰ کو ناپسند ہے:**

حضور نبی رحمت، شَفِيعُ أُمَّتٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: فحش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فحش اور فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔<sup>(۱)</sup>

۱... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الغضب، ذكر الزجر عن الظلم... الخ، ۳۰۷/۷، حديث: ۵۱۵۴

### مومن کی پہچان:

سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: مومن عیب نکالنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔<sup>(2)</sup>

### فحش گو پر جنت حرام ہے:

ایک اور حدیث پاک میں ہے: ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔<sup>(3)</sup>

### دوزخیوں کی تکلیف کا باعث:

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: چار شخص جہنمیوں کے لئے عذاب میں مبتلا کی تکلیف کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف کا باعث بنیں گے، وہ کھولتے پانی اور بھڑکتی آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے موت مانگتے ہوں گے، (ان چار اشخاص میں سے) ایک شخص وہ ہو گا جس کے مُنہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہو گا، اس سے کہا جائے گا: اس بدنصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا: میں وہ بد نصیب ہوں جو ہر فحش اور خبیث بات کو دیکھ کر ایسے لذت اُٹھاتا تھا جیسے فحش کلامی سے لذت اُٹھائی جاتی ہے۔<sup>(4)</sup>

2... سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ملجاء فی اللعنة، ۳/۳۹۳، حدیث: ۱۹۸۴

3... موسوعۃ الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۲۰۴، حدیث: ۳۲۵

4... موسوعۃ الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الصمت، ۷/۱۳۲، حدیث: ۱۸۷

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** دیکھا آپ نے فحش گوئی کس قدر بُری عادت ہے مگر افسوس! فحش گوئی اور بے حیائی کو فروغ دینے میں ماحول کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ (میڈیا) مثلاً ریڈیو، ٹی، وی کے مختلف چینلز اور متعدد رسائل اور اخبارات بھی مصروف ہیں۔ جس کی بناء پر ہمارا معاشرہ تیزی سے فحاشی، عُریانی و بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے جس کے سبب خاص کر نئی نسل اخلاقی بے راہ روی و شدید بد عملی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بیہودہ فنکشنز رواج پارہے ہیں۔ اکثر گھر سینما گھر اور اکثر مجالس نقار خانے کا سماں پیش کر رہی ہیں۔ خدارا! ہوش میں آئیے اور دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اور خود کو فحش گوئی اور بے حیائی کے مناظر سے بچانے کیلئے مدنی چینل دیکھتے رہیے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کی ذات میں حیرت انگیز تبدیلی آئے گی بلکہ آپ کے اہل خانہ کی زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## خاموشی کے فضائل:

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** ابھی ہم نے فحش گوئی کی مذمت پر احادیثِ مبارکہ سنیں کہ فحش گوئی کرنے والے کو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ناپسند فرماتا ہے، اس پر جنتِ حرام ہو جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی فحش اور بے ہودہ گفتگو میں پڑنے کے بجائے فضول گفتگو سے بچتے ہوئے خاموشی کی عادت

## زبان کا قفلِ مدینہ

بنانی چاہیے۔ کیونکہ خاموشی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان بہت سے گناہوں خاص کر فحش گوئی سے بچ سکتا ہے۔ آئیے! خاموشی کی فضیلت پر 6 فرامین مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سنتے ہیں:

(1) ”اے ابو ذرّاء! کیا میں تجھے دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کی مشقّت تو خفیف (ہلکی) ہے مگر ان کا اجر عظیم ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ ان جیسے کسی عمل کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی وہ دو عمل طویل خاموشی اور حسن اخلاق ہیں۔“

(مجمع الزوائد، باب ماجاء فی حسن الخلق، رقم: ۱۲۶۷۲، ج ۸، ص ۴۸)

(2) جو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔“ (بخاری، کتاب الادب، باب من کان یومن باللہ والیوم الآخر... الخ، ۱۰۵/۴، حدیث: ۶۰۱۸)

(3) ”جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔“ (ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، رقم: ۲۵۰۹، ج ۴، ص ۲۲۵)

(4) ”جسے سلامتی عزیز ہو اسے چاہئے کہ خاموشی اختیار کرے۔“

(شعب الایمان، رقم: ۴۹۳، ج ۴، ص ۲۴۱)

(5) ”بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک اپنی زبان کو روکے نہ رکھے۔“ (المجم الاوسط، رقم الحدیث ۶۵۶۳، ج ۵، ص ۵۵)

(6) ”خوشخبری ہے اس شخص کیلئے جو اپنا زائد کلام بچا کر رکھے اور زائد مال خرچ کر دے۔“ (المجم الکبیر، مسند رجب المصری، رقم: ۴۶۱۶، ج ۵، ص ۷۲)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

## ایک سوال اور اس کا جواب:

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** خاموشی کے فضائل سن کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی فضول گفتگو جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو تو شرعاً اس میں کوئی قباحت (برائی) نہیں تو پھر خاموش رہنے پر اصرار کرنے کی کیا وجہ ہے؟

**جواب:** حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیْ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: بولنے میں کثیر آفات ہیں غَلَطٌ، جُھوٹ، غِیْبَتٌ، چُغَلِی، رِیَاکَری، نِیَاق، فُحْشٌ گوئی، بَحْثٌ و مَبَاحِثٌ کرنا، اِیْنِیْ تَعْرِیْفٌ کرنا، باطِلٌ میں مشغول ہونا، جھگڑا کرنا، فضول گفتگو کرنا، بات بڑھانا گھٹانا، مخلوق کو ایذا دینا اور کسی کی پردہ دری کرنے جیسے عُیُوب کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ یہ کثیر آفات زبان پر بہت جلد آجاتی ہیں اور زبان پر بوجھ بھی نہیں بنتیں اور دل کو ان کی وجہ سے لُطْفٌ و سُرُورٌ حاصل ہوتا ہے، خود طبیعت بھی ان پر اُکساتی ہے اور شیطان بھی زور لگاتا ہے۔ ان آفات میں پڑنے والا زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی من پسند بات کر گزرتا ہے اور جو خود کو ناپسند ہو اس سے خاموش رہتا ہے جبکہ یہ (یعنی کہاں بولنا اچھا ہے اور کہاں بُرا) مَخْفِیٌ اور پیچیدہ علم میں سے ہے۔ لہذا بولنے میں خطرہ ہے اور چپ رہنے میں عافیت ہے یہی وجہ ہے کہ خاموشی کی بڑی فضیلت ہے۔ نیز خاموش رہنے سے مُنْتَبِہٌ، خیالات و افکار یکجا ہو جاتے ہیں، وقار قائم رہتا ہے، بندہ ذکر و فکر اور عبادت کے لئے فارغ ہوتا ہے، دنیا میں بولنے کے برے انجام سے اَمْنٌ میں اور آخرت میں اس کے حساب سے فارغ رہتا ہے۔

## فُضُولِ جملوں کی مثالیں:

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** افسوس صد افسوس! کئی اچھے نظر آنے والے بھی بد قسمتی سے بھلائی کی باتیں کرنے کے بجائے فُضُولِ باتوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یاد رہے! بے فائدہ باتوں میں مَصرُوف ہونا یا فائدہ مند گفتگو میں ضَرورت سے زیادہ الفاظ ملا لینا حرام یا گناہ نہیں البتہ اسے چھوڑنا بہت بہتر ہے۔ (اخیاء العلوم ج ۳ ص ۱۳۳) کیونکہ غیر ضروری باتیں کرتے کرتے ”گناہوں بھری“ باتوں میں جا پڑنے کا قوی امکان رہتا ہے لہذا خاموشی ہی میں بھلائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بلا حاجت ایسے ایسے سوالات کئے جاتے ہیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے اور اگر جواب میں احتیاط سے کام نہ لے لے تو جھوٹ کے گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے سوالات کی چند مثالیں سنئے اگر ضرورت ہو تو ٹھیک اور اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو مسلمانوں کو شرمندگی یا گناہوں کے خدشات سے بچائیے۔ مثلاً (1) ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے! (2) یار! آج کل دُعاؤ عا نہیں کرتے! (3) ارے بھائی! ناراض ہو کیا؟ (4) یار! لگتا ہے آپ کو مزا نہیں آیا! (5) یہ گاڑی کتنے میں خریدی؟ (6) کس سال کا ماڈل ہے؟ (7) آپ کے علاقے میں مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ (8) یار! مہنگائی بہت زیادہ ہے (9) فلاں جگہ پر موسم کیسا ہے؟ (10) اُف! اتنی گرمی! (11) آج کل تو کڑ کڑاتی سردی ہے (12) نہ جانے یہ بارش اب رُکے گی بھی یا نہیں! (13) ذرا بارش آئی کہ بجلی گئی! (14) آپ کے یہاں بجلی تھی یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔



عموماً بیان کردہ کلمات اور اس طرح کے بے شمار فقرات بلا ضرورت بولے جاتے ہیں۔ ”گپ شپ“ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول بات چوں کہ جائز ہے گناہ نہیں یہ سوچ کر یا ویسے ہی جو کبھی کبھار ہی فضول باتیں کرتے ہیں وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِی کے تائثرات (ت۔ اٹ۔ ثرات) ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان چار نقصانات سے ڈرائیں۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے ان چار دُجُوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت فرمائی ہے۔

(1)۔ فضول باتیں کرنا گناہیں (یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں) کو لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی رحمت نہ دے۔

(2)۔ یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پیش ہو۔

(3)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہو گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ! اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ (ب۔ رَہ۔ نہ یعنی ننگا) ہو گا، سخت پیاسا ہو گا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہو گی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہو گا اور ہر قسم کی راحت اُس پر بند کر دی گئی ہو گی، غور تو کیجئے ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہو گا!

## زبان کا قفلِ مدینہ

(4):- بروزِ قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اُس کو شرمندہ کیا جائے گا۔ بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو گا اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ (مہنہاُ العابدین ص ۶۷)

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** ذرا تصوّر تو کیجئے کہ میدانِ محشر کی فضاء میں کہ جب پیاس کی شدّت سے دم نکلا جا رہا ہو، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہو، جہنم کی ہولناک سزاؤں کا سوچ کر کلیجہ مُنہ کو آ رہا ہو پھر وہاں ہمارے متعلقین بھی موجود ہوں تو مَعظّات و فضولیات (گالیوں اور فضول باتوں) سے بھر پور نامہ اعمال کو پڑھنا کتنا دُشوار کام ہو گا؟ لہذا! میدانِ محشر میں اس ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لئے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت سے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرنی چاہئے اور فکرِ مدینہ کرتے ہوئے اس طرح حساب لگانا چاہیے کہ اگر میں نے روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو ایک مہینے کے ساڑھے سات گھنٹے ہوئے اور ایک سال کے 90 گھنٹے، بالفرض کسی نے پچاس سال تک روزانہ اوسطاً 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 دن 12 گھنٹے ہوئے یعنی چھ ماہ سے زائد، تو غور فرمائیے! قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج صرف سو اُمیل پر رہ کر آگ برسا رہا ہو گا، ایسی ہو شرُبا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ چھ ماہ تک کون ”اعمالِ نامہ“ پڑھ کر سنا سکے گا! یہ تو صرف یومیہ پندرہ منٹ کی فضول گوئی کا حساب ہے۔ ہمارے تو بسا اوقات کئی کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ ”فضول گپ شپ“ میں گزر جاتے ہیں، گناہوں بھری باتیں اور دیگر بُرائیاں مزید برآں

یارت نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں!  
 اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ  
 بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے  
 اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ  
 ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ! میں دوں گا  
 اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

یاد رکھئے! زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور یہ چند گھنٹے چند لمحوں سے عبارت ہیں، زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے، کاش! ہمیں ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر آتشکِ ندامت نہ بہانے پڑ جائیں! صد کروڑ کاش! ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے، زہے مُقَدَّر! زندگی کی ہر ساعت مُفید کاموں ہی میں صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں، خُوش گپوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کَفِّ افسوس ملتے نہ رہ جائیں لہذا ہم بھی اپنے لمحاتِ زندگی کی قدر کرتے ہوئے خود کو نیکیوں کا عادی بنانے، گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے، فضول گوئی سے پیچھا چھڑانے اور ذکر و زُود کی عادت بنانے کیلئے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر قُفْلِ مدینہ تحریک کا حصّہ بنیں گے اور ہر ماہ یومِ قُفْلِ مدینہ بھی منائیں گے۔ اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

## زبان کا قفلِ مدینہ

تُفَلِّمُ مَدِينَةَ لُغَاهِمْ -- إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ  
ایک چپ --- سو سٹکھ  
پہلے تولو --- بعد میں بولو

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

گفتگو کا جائزہ:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! زبان کی حفاظت کرنے، فضول اور بے فائدہ باتوں سے بچنے کیلئے اگر ہم اپنے بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْعَمِيْنُ کی بات چیت کرنے کا انداز، گفتگو میں ان کی احتیاطیں اور ان کے نصیحت آموز اقوال کو مد نظر رکھیں گے تو ان شاء اللهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے بھی فضول گوئی سے بچنے کا ذمہ بنے گا۔

زبان کی حفاظت سے متعلق 8 اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ گفتگو سے بچنے کے لئے اپنے منہ میں کنکری رکھا کرتے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے: یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیدنا عبد اللہ بن طاؤس رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میری زبان ایک درندہ ہے اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے۔

﴿3﴾... حضرت سیدنا وہب بن مُنَبِّه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: آلِ داؤد کی حکمت سے ہے کہ عقلمند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خبر رکھے، اپنی زبان کی

حفاظت کرے اور اپنے کام پر توجہ رکھے۔

﴿4﴾... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِیٰ فرماتے ہیں: جو زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔

﴿5﴾... ایک بزرگ فرماتے ہیں: خاموشی آدمی میں دو فضیلتیں جمع کر دیتی ہے: ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے اور دوسرا وہ اپنے ساتھی کی بات کو سمجھ لیتا ہے۔

﴿6﴾... حضرت سیدنا محمد بن واسع عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ النَّافِع نے حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَقَّار سے فرمایا: اے ابو یحییٰ! لوگوں پر زبان کی حفاظت، درہم و دینار کی حفاظت سے زیادہ سخت ہے۔

﴿7﴾... حضرت سیدنا یونس بن عُیَیْنِد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں: جس شخص کی زبان دُرُست پر قائم رہتی ہے تم اس کا اثر اس کے ہر عمل میں دیکھو گے۔

﴿8﴾... حضرت سیدنا ربیع بن خَیْثَم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم نے بیس سال تک دُنیاوی گفتگو نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو دَوَات، کاغذ اور قلم رکھتے اور جو گفتگو بھی کرتے اسے لکھ لیتے پھر شام کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے۔ (احیاء العلوم ج ۳، ص ۳۳۸)

ایک بار حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ اور سُفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِیٰ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور پھر دونوں روئے پھر سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعِنِی نے فرمایا: اے ابو علی (یہ حضرت سیدنا فضیل کی کنیت ہے) ”میں آج کی اس صحبت سے بہت ثواب کی امید رکھتا ہوں۔“ سیدنا فضیل

## زبان کا قفلِ مدینہ

بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”میں آج کی اس صحبت سے بہت خوفزدہ ہوں۔“  
 سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے پوچھا: کیوں؟ سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے  
 جواب دیا: کیا ہم دونوں اپنی گفتگو کو آراستہ نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہم تکلف میں مبتلا نہیں  
 تھے؟ سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ یہ سُن کر رو پڑے۔ (مشہاج العابدین ص ۴۴)

اللَّهُ أَكْبَرُ! مقامِ غور ہے۔ ان نیک بندوں کی ملاقات رضائے الہی عَزَّوَجَلَّ کیلئے  
 اور ان کی بات چیت خالص اسلامی ہو کرتی تھی۔ مگر ان کا خوفِ خدا عَزَّوَجَلَّ ملاحظہ فرمائیے!  
 دونوں اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں کہیں  
 اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ کہیں ہم فُضُولِ بَابِ اَوْجِہِ خُبُوصُورَتِ جِملے تو نہیں بول گئے!  
 نبی کریم، رُوْفُ رَحِيمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: (بروزِ قیامت) تم  
 میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس سے زیادہ دُور وہ لوگ ہوں  
 گے جو بتکلف بہت زیادہ بولنے والے، خُبُوصُورَتِ بھری گفتگو کرنے والے اور بغیر  
 احتیاط کئے بہت زیادہ کلام کرنے والے ہوں گے۔ (المجم الکبیر، ۲۲ / ۲۲۱، حدیث: ۵۸۸)

### پرہیز گار تکلف سے دور ہوتے ہیں:

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں:  
 آدمی کو چاہئے کہ ہر چیز میں مقصود پر اکتفا کرے اور کلام کا مقصود غرض کو سمجھانا ہے اور اس  
 کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تَصَدُّعُ (بناوٹ) ہے اور قابلِ مذمت ہے البتہ خطابت میں مُبَالَغَةُ اور  
 ناقابلِ فہم گفتگو سے بچتے ہوئے خوبصورت الفاظ سے وَعِظُ وَنَاصِيحَةُ کرنا اس میں داخل نہیں

ہے کیونکہ خطابت سے مقصود دلوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا اور رغبت دلانا اور انہیں خواہشات سے روکنا اور دلوں میں رضائے الہی کے حصول کی جگہ بنانا ہے اور الفاظ کی خوبصورتی اس میں مؤثر ہوتی ہے، لہذا اس میں مضائقہ نہیں۔ رہے وہ محاورات جو حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں قافیہ باندھنا اور تکلف کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان میں مشغول ہونا قابلِ مذمت ہے اور ان پر ابھارنے والی چیز، ریاکاری، فصاحت کا اظہار اور دوسروں پر فوقیت و برتری پانے کے ذریعے ممتاز و نمایاں ہونا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مذموم (برا) ہے، شریعت انہیں ناپسند کرتی ہے اور ان سے روکتی ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ۴۰۳)

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی گفتگو میں نکھار پیدا کرنے کیلئے ضرورت سے زیادہ خوبصورت جملوں کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں بالخصوص جب کسی ان پڑھ یا سیدھے سادھے اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت پیش کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں ورنہ ہم نے اپنی طرف سے نیکی کی دعوت تو دے دی مگر اس بیچارے کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے تو کیا فائدہ؟۔ لہذا ہر کسی سے اس کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعَالِیَہِہِ اپنی کتب و رسائل اس قدر آسان انداز میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر ایک اس آسانی پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ آپ بھی شیخ طریقت، امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعَالِیَہِہِ کی کتب و رسائل اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی ہر کتاب کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی تحفۃً پیش کیجئے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اس کی ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔

## زبان کا قفلِ مدینہ

شیخ طریقت، امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے 72 مدنی انعامات میں بھی مدنی تربیت فرمائی ہے: مثلاً مدنی انعام نمبر 29 میں فرماتے ہیں: آج آپ نے کسی سے ایسے فضول سوالات تو نہیں کئے جن کے ذریعے مسلمان عموماً جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ (مثلاً بلا ضرورت پوچھنا آپ کو ہمارا کھانا پسند آیا؟ وغیرہ) مدنی انعام نمبر 33 ہے: آج آپ نے (گھر میں اور باہر) کسی پر شہمت تو نہیں لگائی کسی کا نام تو نہیں بگاڑا؟ کسی سے گالی گلوچ تو نہیں کی؟ (کسی کو سَور، گدھا، چور، لمبو، ٹھنگوں وغیرہ نہ کہا کریں) اسی طرح مدنی انعام نمبر 38 ہے کہ کیا آج آپ جھوٹ، غیبت، چُغلی، حسد، تکبُر اور وعدہ خِلانی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ مدنی انعام نمبر 46 ہے کہ کیا آج آپ نے زبان کا قفلِ مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کیلئے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کی؟

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! بیان کردہ مدنی انعامات میں سے ہر ایک کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے بالخصوص مدنی انعام نمبر 46 میں فضول گفتگو سے خود کو بچانے، قفلِ مدینہ کی عادت بنانے کیلئے لکھ کر اور اشارے سے گفتگو کرنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی فضول گوئی سے پیچھا چھڑانے اور خاموشی کی عادت ڈالنے کے لئے روزانہ کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کرنی چاہیے اور پھر کوشش کرتے ہوئے اس عادت کو بڑھانے کیلئے اکثر لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ لکھ کر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں کیونکہ اس میں مَشَقَّت ہے اور نفسِ مشقت سے گھبراتا ہے۔ حضرت سَیِّدُنا مالک**



بن دینار رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”اگر لوگوں کو لکھ کر گفتگو کرنے کا مُکَلَّف بنایا جاتا ہے تو یہ بہت کم گفتگو کرتے۔“ (جنت کی دو چابیاں ص ۱۱۶)

اسی طرح فضول گفتگو سے بچنے کیلئے اشارے سے بات کرنا بھی مُفید ہے کہ کسی کو بلانا ہو، پانی وغیرہ چاہئے ہو تو ہاتھ یا گردن کے اشارے سے بھی کام چلایا جاسکتا ہے۔ اگر ہم دن کا کوئی وقت مثلاً عصر تا مغرب، یا روزانہ ایک گھنٹہ 26 منٹ زبان کا قفل مدینہ لگائیں گے، اشارے سے یا لکھ کر گفتگو کریں گے تو آہستہ آہستہ ذہن بنتا جائے گا۔ اگر فضول گوئی کی عادت سے جلدی جان چھڑانا چاہیں تو روزانہ کچھ دیر کے لئے مُنہ میں پتھر رکھ لیجئے کہ یہ سُنَّتِ صَدِیقِی بھی ہے کہ حضرت سَیِّدُنَا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنے مُنہ مبارک میں پتھر رکھا کرتے تاکہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو فضول گفتگو سے روک سکیں۔ (معجم الاوسط، ج ۵، ص ۴۷، حدیث ۶۵۴۱)

لیکن خیال رہے کہ پتھر بِيَضْوَى شکل میں اچھی طرح گھسائی کیا ہوا ہو اور اس کا سائز اتنا بڑا ہو کہ حلق سے نیچے نہ اتر سکے۔

اگر کبھی زبان سے فضول بات نکل جائے تو اس پر نادِم ہو کر دُرُودِ پَاک پڑھئے۔ دُرُودِ پَاک کی برکت سے اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فضول گوئی سے نجات مل ہی جائے گی۔

بچیں بے کار باتوں سے پڑھیں اے کاش کثرت سے  
ترے محبوب پر ہر دم دُرُودِ پَاک ہم مولیٰ  
ہماری فالتو باتوں کی عادت دُور ہو جائے  
لگائیں مُستقل قفلِ مدینہ لب پہ ہم مولیٰ

## زبان کا قفلِ مدینہ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!** خاموشی کی عادت بنانے کیلئے بیان کردہ طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر بھی پابندی سے عمل کر لیا جائے تو اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فضول گوئی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مگر ابتداءً اس میں شیطان رُکاوٹیں ڈالے گا۔ کبھی گھر والے تو کبھی کوئی اور، کبھی خود ہی ایسا لگے گا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا، مگر ہمت نہ ہاریئے کوشش کرتے رہئے خوب جِدو جُہد کیجئے اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ضرور کامیاب ہوں گے۔ مزید فضول گوئی کی آفات سے پیچھا چھڑانے اور زبان کی حفاظت کا ذہن بنانے کیلئے شیخ طریقت، امیر اہلسنت دامت بركاتہمُ العالیہ کی مایہ ناز کُتُب ”کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب“ اور ”غیبت کی تباہ کاریاں“ نیز مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اِحیاء العلوم جلد 3 سے زبان کی آفات اور رسالہ ”خاموش شہزادہ“ کا مطالعہ کیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مفید معلومات کے ساتھ ساتھ قفلِ مدینہ کا ذہن بھی بنے گا۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

**بیان کا خلاصہ:**

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!** آج کے بیان میں ہم نے زبان کی آفتوں کے بارے میں سنا کہ زبان ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے اگر اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ انسان کو دنیا و آخرت میں بھی مشکلات کا شکار کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ رُوْحِ اللهُ عَلَی نَبِیِّنَا وَعَلِیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی نصیحت

آموز حکایت سنی جس میں آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے زبان کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد میں نے قرآنِ پاک کی آیات اور خاموشی کے فضائل پر احادیثِ مبارکہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور ضمناً فحش گوئی کی مذمت بھی آپ کے گوش گزار کی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ضروری بات بھی کریں تو کم سے کم الفاظ میں نمٹائیں۔ مگر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ افراد مل بیٹھ کر فالتو گوئیں ہانکنے میں مصروف ہوں اور ان میں ایک آدمی خاموش بیٹھا ہو تو اس کو نہ بولنے کا طغنه دیا جاتا ہے، اور اس بات پر مَعَاذَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اس کی بے عزتی کی جاتی ہے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فضول جملوں کی چند مثالیں بھی سنی کہ بعض افراد کو فضول سوالات کرنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ان کے سوالات سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھئے! اس طرح کے سوالات سے بعض اوقات جواب نہ ہونے کی صورت میں سامنے والے کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے لہذا ایسے فضول سوالات سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے بزرگانِ دین رَحْمَهُمُ اللّٰهُ التَّوَّابِينَ کے اقوال اور سَيِّدُنَا سُفْيَانُ ثَوْرِي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّقْوِي اور سَيِّدُنَا فَضِيلُ بن عِيَاض رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کی ملاقات کا واقعہ سنا ان میں بھی ہمارے لیے عبرت کے زَبْر دَسْت مدنی پھول ہیں۔ وہ دونوں بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْهِمَا دُورَانِ ملاقاتِ خوفِ خدا کے سبب رورہے ہیں کہ کہیں ہم سے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی والا کوئی جملہ تو نہیں نکل گیا؟ اے کاش! ہمارا بھی یہ مدنی ذہن بن جائے کہ ہم بھی مجلس کے اختتام پر اس طرح اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے اپنی گفتگو میں کسی کی دل آزاری تو نہیں

## زبانِ کافلِ مدینہ

کی؟ کسی کی غیبت تو نہیں کر بیٹھے؟ کسی کو گالی تو نہیں دی؟ کہیں اس گفتگو میں ہم سے فالتو جملے تو نہیں نکل گئے؟ اگر ہم اس طرح فکرِ مدینہ کریں گے تو ان شاء اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس کی برکت سے بھی فضول گوئی سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ اس کے بعد فضول گوئی سے بچنے کے چند طریقے مثلاً لکھ کر گفتگو کرنا، اشارے سے گفتگو کرنا، سُنَّتِ صدیقی پر عمل کرتے ہوئے مُنہ میں پتھر رکھنا اور ڈرود پاک کی کثرت کرنا بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اگر ہم بھی ان طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان شاء اللہ عزَّ وَّجَلَّ فضول گوئی کی عادت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ عزَّ وَّجَلَّ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اٰمِيْنَ بِجَايَةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

مدنی کاموں میں حصہ لیجئے!

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! زبان کی حفاظت کا ذہن بنانے، فضول گوئی کی عادت سے پیچھا چھڑانے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کیلئے ذِکْر وُ رُود کی عادت اپنانے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے کیلئے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام راہِ خدا عزَّ وَّجَلَّ میں عاشقانِ رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عزَّ وَّجَلَّ اِس سلسلے میں دعوتِ

اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے لئے ملک بہ ملک، شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ سفر کر کے علم دین اور سنتوں کی بہاریں لٹا رہے اور نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہے ہیں۔ یقیناً راہِ خدا میں سفر کرنے والے عاشقانِ رسول کے ہمراہ دعوتِ اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں سفر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ان مدنی قافلوں کی برکت سے پَنبُجِ وَقْتِہِ نماز و نوافل کی پابندی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سنتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں اور علم دین حاصل کرنے کا موقع ميسر آتا ہے۔ علم دین کے لیے سفر کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ

حضرت سَيِّدُنا اَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ حضرت سَيِّدُنا اَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس لوٹے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔" (ترمذی، کتاب العلم، رقم ۲۶۵۶، ج ۴، ص ۲۹۴)

حضرت سَيِّدُنا اَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جب کسی طالبِ الْعِلْمِ کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آجائے تو وہ شہید ہے۔“

(الترغیب والترہیب، کتاب العلم، الترغیب فی العلم، رقم ۱۶، ج ۱، ص ۵۴)

ہمیں بھی حصولِ علم کی خاطر ہر ماہ تین دن راہِ خدا عَزَّ وَجَلَّ میں سفر کو اپنا معمول بنالینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ دعوتِ اسلامی کے یہ مدنی قافلے جہاں علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں وہیں ان کی برکت سے معاشرے کے بگڑے ہوئے جرائم پیشہ افراد تائب ہو کر

## زبان کا قفلِ مدینہ

نیکوں کی راہ پر گامزن ہو گئے، بے نمازی نمازی بن گئے، چور ڈاکو اور شراب کے عادی سُنّتوں کے پیکر بن گئے۔ آئیے! ترغیب کیلئے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔

### شراب کا عادی کیسے تائب ہوا؟

باب المدینہ (کراچی) میں مُقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے: ۱۴۲۵ھ  
 بمطابق 2005ء کی بات ہے کہ دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل بُری صحبت کی نحوست سے میں نے شراب پینا شروع کر دی۔ چونکہ میرے والد صاحب انتقال فرما چکے تھے اور گھر میں سب سے بڑا میں ہی تھا اس لئے گھر کی تمام ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، دلی طور پر شراب کو بُرا جاننے کے باوجود میں عادت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، ہزار ہا کوششوں کے باوجود میں اس سے جان نہ چھڑا سکا۔ چنانچہ اس نیت سے کہ راہِ خدا عَزَّوَجَلَّ میں سفر کر کے دُعا کروں تو شاید اس عادت بد سے نجات مل جائے میں نے عاشقانِ رسول کے ہمراہ تین دن کے مدنی قافلے میں سُنّتوں بھر سفر اختیار کیا اور دورانِ مدنی قافلہ خوب دعائیں کیں، مدنی قافلے کے دوران مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جورِ حمیتیں ملیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ مدنی قافلے کی برکت سے شراب نوشی کی بُری عادت سے میری جان چھوٹ گئی وہ دن اور آج کا دن تین سال کا عرصہ گزر گیا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ شراب پینا تو دُور کی بات میں نے یہ منحوس کام کرنے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ اور یہ بیان دیتے وقت میں عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ (باب المدینہ کراچی) میں دس روزہ اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹنے

میں مصروف ہوں اور عمامہ کا تاج بھی میرے سر پر جگمگا رہا ہے۔

**صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد**

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت

اور چند سُنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مصطفیٰ جانِ رحمت، شمعِ بزمِ ہدایت، نوشہِ بزمِ جنتِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ جنتِ نشان ہے: جس نے میری سُنت سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

(مشکاۃُ الْمصابیح، ج ۱ ص ۵۵ حدیث ۱۷۵)

آئیے شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ اَعْلَیْہِہ کے رسالے ”101 مدنی پھول“

سے بات چیت کرنے کے چند مدنی پھول سُنتے ہیں۔

◊: مُسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجئے۔ ◊: چلا چلا کر بات کرنا

جیسا کہ آجکل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں سنت نہیں۔ ◊: چاہے

ایک دن کا بچہ ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اُس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت

بنائیے۔ آپ کے اخلاق بھی اِنْ شَاءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ عُمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے

گا۔ ◊: جب تک دوسرا بات کر رہا ہو، اطمینان سے سُنتے۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی

بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ ◊: بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں

## زبانِ کافلِ مدینہ

قہقہہ نہ لگائیے کہ سرکارِ صَلاَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نے کبھی قہقہہ نہیں لگایا۔ ﴿○﴾: کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ ﴿○﴾: بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجئے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہئے اور یاد رکھئے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرامِ قطعی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۱، ص ۱۲۷)

طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کیلئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب بہارِ شریعت حصہ 16 (312 صفحات) نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب ”سنتیں اور آداب“ ہدیہ حاصل کیجئے اور پڑھئے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں بھر سفر بھی ہے۔  
 غم کے بادل چھٹیں قافلے میں چلو      خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو  
 اچھی صحبت ملے، خوب برکت ملے      چل پڑو چل پڑیں قافلے میں چلو  
**صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ**

دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 ذرود پاک

(1) شبِ جمعہ کا ذرود: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

الْحَبِیْبِ الْعَالِ الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

بُزُرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شبِ جمعہ (جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات) اس ذرود شریف کو



پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اُتار رہے ہیں۔ (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ ص ۱۵۱ المخصّصا)

(2) تمام گناہ معاف:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ دُرُودِ پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (ایضاً ص ۶۵)

(3) رحمت کے ستر دروازے

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو یہ دُرُودِ پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

(الْقَوْلُ الْبَدِيعُ ص ۷۷)

(4) ایک ہزار دن کی نیکیاں

جَزَىٰ اللَّهُ عَنْنَا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

## زبان کا قفلِ مدینہ

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس دُرود پاک کو پڑھنے والے کیلئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ (مَجْمَعُ الزَّوَادِجِ ۱۰ ص ۲۵۴ حدیث ۱۷۳۰۵)

(5) چھ لاکھ دُرود شریف کا ثواب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً مَبْدَأً وَمُكَلِّمًا اللَّهُ  
حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں: اس دُرود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ دُرود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔  
(افضل الصلوات علی سید السادات ص ۱۳۹)

(6) قُربِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

ایک دن ایک شخص آیا تو حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھالیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے! جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: یہ جب مجھ پر دُرود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ (الْقَوْلُ الْبَدِيعُ ص ۱۲۵)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ